


[german](#) | [english](#) | [french](#) | [spanish](#) | [italian](#) | [serbian](#) | [russian](#) | [turkish](#) | [arabic](#)

tip doc

emergency


Ergänzung der 1. und 2. Auflage
"Kinder"




setzer
verlag

Gab es das früher schon?

> 41 Gewicht, Alter; > 18 Allergie



Gab es Geburtskomplikationen?



Impfbuch / Tetanusimpfung?



Gab es das früher schon?	Gab es Geburtskomplikationen?	Impfbuch/Tetanusimpfung? german
Has he / she had this before?	Were there any complications at birth?	Vaccination record / Tetanus vaccination?
Ces symptômes sont parvenus auparavant déjà?	Y avait-il des complications lors de la naissance?	Carnet de vaccination / Vaccination contre le tétanoso?
¿Ya ha tenido esto el niño alguna vez?	¿Hubo complicaciones durante el parto?	¿Cartilla de vacunación / Vacuna del tétanos?
C'era già anche prima?	Ci sono complicazioni durante la nascita?	Registro vaccinazione / Vaccinazione antitetanica?
Da li je već ranije bolovalo od toga?	Da li je bilo komplikacija kod poroda?	Knjižica o vakcinaciji / Vakcina protiv tetanusa?
Проявлялось ли это раньше?	Прошли роды ссложнениями?	Прививка / Противостолбнячная прививка?
[Projawljalo li äto ransche?]	[Proschli rody s usloshnjenijami?]	[Priwiwka / Protiwostol-bnjatschnaja priwiwka?]
Çocukta önceden de görüldü mü?	Doğumda zorluklar yaşandı mı?	Aşı takvimi / Tetanoz aşısı?
هل حدث هذا لطفلك من قبل؟	هل حدثت مضاعفات عند الولادة؟	دفتر التطعيمات / تطعيم ضد التيتانوس؟
[Hal hadasa hada min kabel lee ebnak?]	[Hal hadasat mudaafat ende aluelada?]	[Daftier altateemmat / tateem dedt altetanous?]